© rasailojaraid.com

اہل کتاب اور ایمان بالرسالت

(۲)

(از جناب چوہدری غلام احمد صاحب پرویز بی اے ہوم ڈپارٹمنٹ نئی دہلی)

حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت اہل کتاب کے معتقدات میں ایسی باتیں آچکی تھیں کہ ان میں اور دیگر کفار و مشرکین میں کوئی فرق ہی نہ رہا تھا۔ آج اپنے زمانے میں ہی دیکھیے۔ جو جو اقوام اپنے آپ کو حامل کتاب و شریعت سمجھتی ہیں بنیادی عقائد میں بھی، ایمان باللہ و یوم آخر کی نسبت ان میں ایسے اصول پائے جاتے ہیں جو کسی صورت میں بھی قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں۔ بلکہ صریحاً انہی لوگوں سے ملتے ہیں جنھیں قرآن کافر و مشرک قرار دیتا ہے۔ انبیاء کرام کو ابناء اللہ بنا دینا، یا انہیں اوتار یعنی عین خدا سمجھنا، ان کے مجسموں کی پرستش کرنا، اعتقاد آخرت میں مکافات عمل کے بجائے کفارہ کے عقیدہ کو اصل دین قرار دینا، یا یہ کہہ دینا کہ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، اور بلا عمل جنت کے اجارہ دار بن بیٹھنا، قطعاً دین فطرت کی تعلیم نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس لیے ایمان کتب و رسل تو ایک طرف، جہاں تک ایمان باللہ و یوم الآخر کا تعلق ہے، اہل کتاب اور کفار میں کوئی فرق ہی نہ رہا تھا۔ اور نہ ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا (۴:۸۰)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے۔ وہ جبت اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اور جس کو خدا ملعون بنا دے اس کا تم کوئی حامی نہ پاؤ گے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

دوسری جگہ ہے:۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۔ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۔ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۵: ۱۰)

بیشک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ حالانکہ مسیح نے خود کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بیشک جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیگا سو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیگا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بلاشبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ حالانکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں اور اگر یہ لوگ اپنے معتقدات سے باز نہیں آئیں گے تو جو ان میں سے کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب واقع ہو گا۔

اب ظاہر ہے کہ نصاریٰ الوہیت مسیح اور تثلیث کو تو جزو دین (بلکہ اصل دین) سمجھتے ہیں اور جو اناجیل ان کے پاس موجود ہیں ان میں یہ عقیدہ اس طرح داخل ہو چکا ہے کہ گویا وہ من جانب اللہ ہے۔ اب ان عقائد سے ان کے باز آنے کی کیا صورت ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے، الحاق ہے تنزیل نہیں ہے۔ اب اصل تعلیم وہ کہاں سے لائیں۔ ان عقائد کی اصلاح کس طرح کریں۔ تاوقتیکہ وہ اپنی کتابوں کو محرف مان کر ان کو چھوڑ دیں ان عقائد سے کس طرح منہ موڑ سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن کریم انہیں تجدید ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ صرف نصاریٰ ہی نہیں، دوسری جگہ یہود و نصاریٰ ہر دو کے متعلق ہے:۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۔ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۔ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے۔ نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ تو بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگ گئے جو ان سے پہلے کا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی یُؤْفَكُوْنَ (۹: ۵)۔ ہو چکے ہیں خدا ان کو غارت کرے یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

فرمائیے کہ اللہ پر ایمان کے بارے میں کفار اور ان اہل کتاب میں کیا فرق ہے۔ قرآن خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ انہی لوگوں کے سے معتقدات ہیں جو کافر ہو چکے ہیں۔ اندریں حالت قرآن کس طرح سے ان کے اس ایمان کو صحیح ایمان تسلیم کرے۔

اللہ اور آخرت پر ایمان کو جس صورت میں انہوں نے مسخ کیا تھا اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ خدا کا خوف ان کے دل سے اٹھ جاتا اور وہ بداعمالیوں میں الجھ کے رہ جاتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا حتیٰ کہ مسلمانوں کی توجہ خاص طور پر ان کی اس حالت کی طرف منعطف کرائی گئی ہے۔ فرمایا۔

اَلَمْ یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِیْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ۔ (۲: ۵)

کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی۔ پھر ان پر زمانہ گذر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔

صحیح تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ان کے عقائد میں تبدیلی ہوئی۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب کسی قوم کے عقائد ہی بگڑ جائیں تو اعمال صالح کیسے رہ سکتے ہیں۔ عقائد و اعمال کی اسی اصلاح کے لیے قرآن کریم نازل ہوا۔ چونکہ اہل کتاب گویا اسی برادری کے افراد تھے، ان کے پاس یہ روشنی پہلے پہنچ چکی تھی۔ ان کے پاس کتابوں میں اس آنے والے رسول کا ذکر موجود تھا۔ اس لیے بمقابلہ کفار و مشرکین کے جن کے کان اس صوت سرمدی سے غیر مانوس اور جن کی آنکھیں نور ایزدی سے ناآشنا تھیں اہل کتاب کو جلدی حق قبول کر لینا چاہیے تھا لیکن تعجب کہ انہوں نے ان سے بھی زیادہ مخالفت کی چنانچہ قرآن کریم نے اسی ظلم کی طرف انکو توجہ دلائی ہے۔ فرمایا۔

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ۔ (۲ : ۵)

کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے (یعنی توریت کی) اور تم سب سے پہلے اس سے انکار نہ کرو۔

دوسری جگہ یہی دعوت سختی کے ساتھ دی ہے کہ اہل کتاب کا قرآن سے انکار سراسر ضد اور نفسانیت پر مبنی ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۔ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا۔ (۴ : ۷)

اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں۔ اور ان کو الٹی جانب کر دیں یا ان پر ہم ایسی لعنت کر دیں جیسی اہل سبت پر لعنت کی تھی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔

سورۂ مائدہ رکوع ۹ میں ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم فوراً ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرتے۔

ایک دفعہ پھر یہ پیش نظر رکھیے کہ اس ایمان کے معنی محض مان لینے کے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کے فیصلے کو ہر معاملے میں قول ناطق تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے یعنی اتباع رسول کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى یُحَكِّمُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (۴ : ۹)

قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ کو حکم مان لیں پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے خلاف اپنے دلوں میں ذرا بھی خلش نہ محسوس کریں۔ اور پورے طور پر تسلیم کر لیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اور رسول اللہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کیا کریں، اس لیے کہ قرآن کے اندر وہ تمام صداقتیں موجود ہیں۔ جو پہلی کتابوں میں آتی رہی ہیں اور جو اب اہل کتاب کے پاس موجود نہیں ہیں۔

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۔ (۵:۷)

اور ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی ہے جو خود بھی حق ہے اور جو اس سے پہلے کتابیں آچکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان کتابوں کی محافظ ہے آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا کریں اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عملدرآمد نہ کیجیے۔

یہی نہیں بلکہ مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھنا کسی معاملہ میں اہل کتاب کا اتباع نہ کرنا۔ اس اتباع کے معنی یہ ہوں گے کہ تم حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ اور یہی کفر ہے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۭ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ (۳:۱۱)

اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے کسی ایک فرقہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ ضرور راہ راست کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب سے ایمان کا مطالبہ ہے ایسے ایمان کا کہ جس میں اتباع رسول و قرآن ضروری ہے ان کے معاملات کا فیصلہ از روی قرآن کیا جانا ضروری ہے یعنی شریعت قرآنی کی پابندی ان پر لازمی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ ان کا کفر متعدی ہے اور مسلمانوں کو ان کے ہر ایک گروہ کے اتباع سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سچی سچی تعلیمات اور ان تعلیمات کے معلم موجود ہیں، اور اہل کتاب کے پاس نہ ان کی اصل تعلیم موجود ہے نہ پیغمبر کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کر دے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ان کی تلبیس و تحریف کو ظاہر کردے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان آیات بینات کی موجودگی میں اہل کتاب کے لیے ایمان نہ لانے کی کونسی دلیل پیش کی جا سکتی ہے قرآن نے تو مسلمانوں کو ان کی دوستی سے بھی منع فرمایا ہے کہ قلبی تعلقات سے بھی عقائد پر بڑا اثر پڑا کرتا ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُوْدَ
وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِیَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ
بَعْضٍ وَ مَنْ یَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ (۵:۸)

اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کریگا وہ انہی میں سے ہوگا بیشک اللہ تعالیٰ ظالمین کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔

یہی نہیں بلکہ جن حالات کے تحت کفار و مشرکین سے جہاد و قتال کا حکم ہے ان میں اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم ہے۔ فرمایا۔

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ
وَ لَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا یَدِیْنُوْنَ
دِیْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى
یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ (۹:۲۹)

اہل کتاب جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا اور رسول نے حرام بتایا ہے، اور نہ سچے دین کو ہی قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر جزیہ دینا قبول کریں۔

اس آیت سے حسب ذیل اہم نتائج مستخرج ہوتے ہیں۔

(۱) اہل کتاب کے ایمان باللہ و یوم الآخر کو ایمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ایمان سے مقصود صرف یہی نہیں کہ محض ہستی باری تعالیٰ، یا آخرت کے وقوع کے امکان کو ہی تسلیم کر لیا جائے۔ بلکہ صحیح ایمان یہ ہے کہ ذات وصفات باری تعالیٰ کے متعلق ایسا تصور قائم کیا جائے جو ہر قسم کے شرک خفی و جلی سے منزہ ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا تصور جس رفعت و تقدس کے ساتھ قرآن کریم نے متعین فرمایا ہے ایسا اور کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے اس تصور کے علاوہ جس قسم کا بھی تصور ہوگا، ایمان نہیں کہلایا جا سکتا، ورنہ اگر محض خدا کی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ہستی کے ماننے کا نام ہی ایمان ہو تو دنیا میں سوائے چند دھریوں کے جو خدا کی ہستی ہی کے منکر ہیں کافر تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ایمان آخرت سے مراد ایک دوسری زندگی کے وقوع کا امکان ہی ہو تو سوائے مغرب کے مادیین کے اور کوئی اس کا منکر بھی نہیں ملیگا۔ آخرت کا ایمان بھی انہی شرائط کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے ایمان باللہ والآخرت کو قرآن نے ایمان تسلیم نہیں کیا

(۲) ایمان باللہ وآخرت کے ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامی یعنی خدا و رسول کی تحریم و تحلیل پر کاربند ہونا بھی اہل کتاب کے لیے ضروری ہے۔

۳۔ ان چیزوں کو اپنے اپنے طور پر صحیح تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ دین الحق (سچے دین) کو قبول کرنا بھی لازمی ہے

ان تصریحات کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ قرآن کریم کی رو سے اہل کتاب کے لیے ایمان لانا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کفار و اہل کتاب میں کچھ فرق ہی نہیں سمجھتا، سوائے اس کے کہ چند معاشرتی آئین میں انھیں دیگر کفار پر ذرا سی ترجیح دی گئی ہے یعنی ان کے ہاں کا کھانا جائز ہے اور ان کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے اور یہ اس لیے کہ۔

گو واں نہیں، پہ واں سے نکالے ہوئے تو ہیں
کعبہ سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی

ان توضیحات کے بعد اب ہم ان آیات کو لیتے ہیں جن سے اہل کتاب کے ایمان کے حق میں استدلال لایا جاتا ہے۔ گزشتہ دو ایک سال میں جتنے اعتراضات نظر سے گزرے ہیں، ان میں تین چار آیات مشترک دکھائی دی ہیں۔ انہی آیات کو ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت سے استدلال لایا جاتا ہے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ

(اے رسول) اہل کتاب سے کہدیجیے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ کہ ہم بجز اللہ کے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (۳ : ۴)

کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھیرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے۔ اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر یہ لوگ اعراض کریں تو کہہ دیجیے کہ تم گواہ رہو۔ ہم تو ماننے والے ہیں۔

اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے صرف عقیدۂ توحید کا مطالبہ ہے، ایمان بالرسالت کا نہیں ہے یعنی اگر وہ شرک کو چھوڑ دیں، تو قرآن انہیں پھر کسی اور چیز کی دعوت نہیں دیتا، اور ان سے مزید تعرض نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے استنباط نتائج کے صحیح اصول کو نظر انداز کر دینے سے ہم اس قسم کی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے صحیح مفہوم اخذ کرنے کے لیے ہمیشہ اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہمیں نص قرآنی لے جاتی ہو، صرف وہیں تک چلیں۔ اس کے بعد اپنے ذہن سے قیاس آرائیاں شروع کر کے مزید نتائج اخذ کرتے نہ چلے جائیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے بھی قرآن کریم سے ہی استشارہ کریں۔ پھر معاملہ صاف ہو جائیگا۔ آیت محولۂ صدر میں اہل کتاب کو عقیدۂ توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں تک تو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ہمارے ذہن نے اضافہ شروع کر دیا کہ "لہذا" اس سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب سے اس کے سوا اور کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ بس اسی "لہذا" میں آکر انسان قرآن سے دور جا پڑتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے مقام پر اس "لہذا" کے خلاف کوئی آیت موجود ہوتی ہے، تو یا تو اسے موڑ توڑ کر اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے، تو قرآن میں تضاد کا شبہ ہونے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ جس چیز کو وہ قرآن کا تضاد سمجھتے ہیں، وہ در اصل قرآن کا تضاد نہیں، بلکہ قرآن کا ان کے "لہذا" سے تضاد ہوتا ہے۔ یہی بنیادی غلطی آیت مذکورہ کے اخذ مفہوم میں ہوتی ہے۔ بات قاعدے کی یہی ہے کہ جب بھی مخاطب سے بحث و مناظرہ، یا دعوت و تبلیغ کا موقع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے امور مشترکہ فیما بین کو طے کر کے الگ رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد امور متنازع فیہ کی بابت ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں تبلیغ و دعوت کا یہی پہلا درجہ دکھلایا گیا ہے جس میں امر مشترک یعنی عقیدہ توحید کو سب سے پہلے طے کر لینے کی

© rasailojaraid.com

دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، جو قرآن کے اسلوب کے مطابق دوسرے مقامات سے مل سکے گا۔ معترضین تمام بحث کا خاتمہ اسی پہلے درجہ میں کر دیتے ہیں، اور اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ بس اہل کتاب سے اس کے سوا اور کوئی مطالبہ ہی باقی نہیں رہتا۔ ذہن میں اس نتیجہ کو راسخ کر لینے کے بعد اب سینکڑوں دوسری آیات جن سے اہل کتاب سے ایمان بالرسالت کا مطالبہ صاف صاف پایا جاتا ہے، انکی سیدھی تاویلات کا تختہ مشق بنائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر استنباط نتائج کا یہی اصول صحیح ہو جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے تو فرمائیے کہ سورہ کافرون سے وہ کیا نتیجہ اخذ کریں گے جس میں مذکور ہے کہ:-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ	کہدیجیے کہ اے کافرو! نہ تو میں تمہارے معبودوں کی پرستش
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ وَلَا أَنَا	کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے
عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا	ہو نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں
أَعْبُدُ۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔	نہ تم میرے معبود کی۔ تمہارے اعمال کی جزا تمہارے لیے میرے کی میرے لیے

ان اصول استنباط کے مطابق تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ کفار سے کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ان سے صاف صاف کہدیا گیا ہے کہ جن معبودان باطل کی تم پرستش کر رہے ہو، کرتے رہو، نہ میں ان کی پرستش کرنے لگوں، نہ تم ان کو چھوڑ کر میرے خدا کی عبادت کرنے پر رضامند ہو، لہذا تم اپنے حال راضی ہم اپنے حال خوش۔ اللہ اللہ خیر صلاح لیکن ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ کسی صورت میں بھی صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد تو نہ صرف نزول قرآن و بعثت نبی اکرم ہی بے معنی ہو جاتی ہے بلکہ قرآن بنیادی طور پر ہی متضاد صورتوں کو پیش کرنے والا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے وہی اصول صحیح ہے جو اوپر گذارش کیا گیا ہے۔ اس صورت میں کفار سے قطع تعلق کا اعلان ہے۔ اس کے بعد ان سے کیا طرز عمل اختیار کیا جائے گا؟ اس کی بابت آپکے لیے نہیں بلکہ قرآن کے دوسرے مقامات سے دریافت کرنا ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب والی آیت میں ان سے صرف قدر مشترک کو طے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا مطالبہ ہے؟ اس کے متعلق قرآن کریم سے ہی استصواب

© rasailojaraid.com

کرنا چاہیئے۔ اور یوں بھی دیکھا جائے تو یہ پہلا مطالبہ ہی اتنا اہم ہے کہ اگر وہ اسے تسلیم کرلیں تو پھر ان کی عیسائیت اور یہودیت میں باقی ہی کیا رہ جاتا ہے۔ ان کو تو پہلے چھوڑنا ہوگا جب کہیں قرآن کا مطالبۂ توحید پورا ہوسکیگا۔

اب اس آیت کو لیجیے۔

لَیۡسُوۡا سَوَآءً ۔ مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ یَّتۡلُوۡنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّیۡلِ وَهُمۡ یَسۡجُدُوۡنَ ۔ یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَیَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَیُسَارِعُوۡنَ فِی الۡخَیۡرٰتِ اُولٰٓئِکَ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ۔ وَمَا یَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَلَنۡ یُّکۡفَرُوۡهُ ۔ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌۢ بِالۡمُتَّقِیۡنَ ۔ (۳ : ۱۲)

سب اہل کتاب کا حال یکساں نہیں ۔ اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کھڑی رہتی ہے اور اللہ کی آیات راتوں میں تلاوت کرتی اور سجدے کرتی ہے یہ لوگ اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑکر (جاتے ہیں)، یہ لوگ صالحین میں ہیں۔ اور جو نیک کام یہ کرتے ہیں، اس (کی جزا) سے محروم نہ رکھے جائیں گے اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔

اس آیت کے دو ٹکڑے زیر بحث ہیں (یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ یعنی وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں) ۔ اور وَمَا یَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَلَنۡ یُّکۡفَرُوۡهُ (کہ وہ جو نیک کام کرتے ہیں، ان کے اجر سے محروم نہ رکھے جائیں گے)۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ایمان کو قرآن تسلیم کرتا ہے، اور ان کے اعمال کو کفار کے اعمال کی طرح باطل قرار نہیں دیتا، بلکہ ان کی جزا کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ نتائج بوجوہ غلط ہیں۔ سیاق کلام یوں چلا آتا ہے کہ اہل کتاب نے آج سے نہیں کچھ شروع ہی سے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات ان کے پاس آتی ہیں تو یہ ان سے انکار کر دیتے ہیں۔ (یَکۡفُرُوۡنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ) اور جونہی آتا ہے یہ اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں (یَقۡتُلُوۡنَ الۡاَنۡۢبِیَآءَ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ) لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ کلیہ نہیں۔ بلکہ اس میں مستثنیات بھی ہیں۔ انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جب

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اللہ کی آیات ان کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ ان سے انکار نہیں کرتے بلکہ انکو قبول کر لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد یہود و نصاریٰ اپنے اپنے ہاں کی مذہبی تعلیم سے تو انکار کرتے ہی نہ تھے۔ وہ تو اس کو مانتے تھے۔ اب اس تکفیر کرنے والی جماعت کے بعد جس جماعت کا ذکر آیا ہے، جو متمیز ہے، وہ ایسی جماعت ہے جو اس پیغام خداوندی کی تکفیر نہیں کرتی، بلکہ اس پر ایمان لے آتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو چکی ہے۔ انہی کے ایمان کو ایمان باللہ والآخرۃ کہا گیا ہے اور اس ایمان کی بدولت ان کے اعمال کو حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ (ان کے اعمال غارت ہو گئے) سے مستثنیٰ کر دیا ہے (۹:۲)۔ اس لیے کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ تمام اہل کتاب کے متعلق یہ موجود ہے کہ۔ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔ (یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے) اس لئے کہ۔ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ (یہ سچے دین کو قبول نہیں کرتے)۔ تو جن اہل کتاب کے متعلق اتنا واضح طور پر یہ کہدیا گیا ہو انہی کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے جماعت لامحالہ وہی جماعت مقصود ہے جو ایمان لا کر حلقۂ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل اسی سورۂ آل عمران کے آخر میں موجود ہے۔

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا۔ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (۳:۲۰۰)

اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے اللہ کے ہاں سے ضرور ملیگا۔ اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

اہل کتاب کی اسی جماعت کا ذکر ہے اللہ کے ایمان کے ساتھ قرآن کریم کے ایمان کی بھی تصریح ہے اور اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ کی تفسیر ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والی جماعت مسلمان اہل کتاب کی ہی جماعت تھی۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پھر یہ بھی غور طلب ہے کہ جس جماعت کا ذکر آل عمران کے رکوع ۱۲ میں کیا گیا ہے اُنکا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہ فریضہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جیسا کہ کئی ایک مقامات سے ظاہر ہے۔ مثلاً دو تین آیات پہلے مذکور ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

مسلمانو! تم بہترین اُمت ہو جو تمام انسانوں کے لئے علیحدہ کی گئی ہے تاکہ تم نیک کاموں کا حکم کرو۔ اور بُرے کاموں سے روکو۔ اور خدا پر ایمان رکھو۔

اور اس کے ساتھ ہے کہ:-

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں۔ اور اکثر فاسق ہیں

اب ظاہر ہے کہ (۳: ۱۲) میں جس جماعت کا ذکر ہے کہ ان کا منصب حیات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ مسلمانوں کی ہی جماعت ہو سکتی ہے یا غیر مسلم اہل کتاب کی؟ پھر ان آیات کے آخر میں ہے وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور متقین کی تعریف شروع قرآن کریم میں گذر چکی ہے کہ:-

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

اور جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے آ چکی ہیں اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

اب بھی اگر شبہ باقی رہ جائے تو شرح صدر کرنے والی تو خدا کی ہی ذات ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ:-

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ کچھ تو ایمان لے آئے ہیں۔ اور اکثر فاسق ہیں۔

منہم المومنون سے مراد یہ ہے کہ "ان میں کچھ تو مومن ہیں۔ اور اکثر فاسق ہیں" یعنی قرآن ان میں بعض کو مومن تسلیم کرتا ہے سو اس کی تکذیب تو خود اس آیت کا Construction کر رہا ہے لو آمن اَهْلُ الْكِتٰبِ۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے" میں تمام اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اگر ان میں سے بعض کو مومن تسلیم کر لیا جاتا تو سب اہل کتاب کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان میں سے جو فاسقین تھے انہی کو مخاطب کیوں نہ کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اسی ایک مقام پر نہیں؛ بلکہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں اہل کتاب کے کسی ایک حصہ کو مخاطب کر کے ایمان کی دعوت دی گئی ہو۔ اس لیے منہم المومنون سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں ایمان لا چکے تھے۔ جیسا کہ (۳:۲۰) سے ظاہر ہے۔

باقی

© rasailojaraid.com